



سوال

(64) اگر دو تین عورتیں مل کر بغیر محرم حج کو جائیں تو کیا حکم؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

اگر دو تین عورتیں مل کر بغیر محرم حج کو جائیں تو کیا حکم؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

بغیر محرم کے عورتوں کے واسطے سفر جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: لا تسافر المرأة مسافة یوم وليلة الا ومعها ذو محرم، "کوئی عورت ایک دن رات کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہ کرے۔" ہاں اگر معتبر عورتوں کی جماعت ہو اور ان پر فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ ازواج مطہرات حج کے لیے آتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی محرم نہ ہوتا تھا۔ فقط معتبر اشخاص ان کی نگرانی میں رہتے تھے۔ (حررہ عبد الجبار بن عبد اللہ الغزنوی عفی اللہ عنہما، فتاویٰ غزنویہ ص ۱۲۲)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 08 ص 79

محدث فتویٰ